

برائے فوری اجراء

## پورے شہر میں چلنے والی شجرکاری مہم کی تقریبات کے مواقع پر برامپٹن میں میں خوب پودے لگائیں

برامپٹن، آن (11 اپریل 2019) - ارتھ ڈے 2019 کی تقریبات کے سلسلے میں مورخہ 22 اپریل سے آنے والے ہفتوں کے دوران سٹی آف برامپٹن کمیونٹی کے لیے شجرکاری کی چار تقریبات کا انعقاد کر رہا ہے۔

درج ذیل تقریبات منعقد کی جائیں گی۔

**ہفتہ، 27 اپریل | صبح 10 تا دن 12**

- نارٹن پیلس پارک، 170 کلارک بولیورڈ شجرکاری اور ایک مفت باری کیو کا بندوبست
- ٹیراموٹو پارک، 9020 چنگواکوسی روڈ کریڈٹ ویلی کنزرویشن کے اشتراک کے ساتھ شجرکاری کی تقریب
- کلیئرویلے کنزرویشن ایریا، 8998 کلیئرویلے کنزرویشن روڈ ٹورونٹو اینڈ ریجن کے اشتراک کے ساتھ شجرکاری مہم۔

**ہفتہ، 4 مئی | صبح 10 تا دن 1**

- ویلی بروک پارک، 244 پریسڈ برک ڈرائیو اینونل اسکاؤٹ کمیونٹی کی جانب سے شجرکاری اور ایک مفت باری کیو کا بندوبست جو ٹورونٹو اینڈ ریجن کے اشتراک کے ساتھ منتظم کیا جا رہا ہے۔

شجرکاری مہم کی کسی بھی تقریب میں رجسٹر کرنے کے لیے، براہ کرم [www.brampton.ca/parks](http://www.brampton.ca/parks) ملاحظہ کریں۔ رجسٹر ہونے کی آخری تاریخ 25 اپریل ہے۔ شرکاء کو موسم کے مطابق لباس اور بند اور موزوں جوتے پہننے چاہیں۔ بیچے/کدالیں اور دستاویزے فراہم کیے جائیں مگر ان کی تعداد محدود ہو گی۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اگر ممکن ہو، تو وہ یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ موسم جیسا بھی ہو، یہ تقریبات منعقد کی جائیں گی۔

### ارتھ ڈے کے متعلق

اس مرتبہ **ارتھ ڈے نیٹ ورک** کا ہدف ہے کہ 2020 کے ارتھ ڈے تک 7.8 ارب پودے لگائی جائیں - یعنی زمین پر بسنے والے ہر شخص کے لیے ایک پودا۔ اس تنظیم کے بقول ارتھ ڈے کی سرگرمیوں میں 192 ممالک سے تعلق رکھنے والے ایک ارب سے زیادہ لوگ حصہ لے رہے ہیں، جو سماجی خدمات کے شعبے میں کام کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔

### اقتباس

"کونسل کی ترجیحات میں برامپٹن کو سرسبز شہر بنانے کی ترجیح بھی شامل ہے اور ارتھ ڈے اس حوالے سے ایک عظیم موقع ہے جس پر ہم اپنی کمیونٹی سے وابستہ ہو کر ماحول کے تحفظ کے بارے میں آگاہی پھیلا سکتے ہیں۔ میں ہر کسی کی اور بالخصوص اپنے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اپنے مستقبل کے شہر کو سرسبز بنانے کی سرگرمیوں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ماحولیاتی ترغیبات مثلاً شجرکاری، ذمہ داری کے احساس کو اجاگر کرنا اور ماحولیاتی بقاء میں اپنا کردار ادا کرنا ہمارے شہر کے لیے نہایت اہم ہے۔"

- میئر پیٹرک براؤن

30--

سٹی آف برامپٹن کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) یا ہمیں ٹویٹر، فیس بک، اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)